



Pakistani-German  
Facilitation and  
Reintegration Centre  
(PGFRC)



ایک نئی شروعات کے امکانات  
پاکستان میں مواقع اور مستقبل کے امکانات  
کی تلاش

ہم مستقبل کے امکانات، روزگار کے مواقع اور کاروبار کی ترقی کے حوالے سے مشاورت فراہم کرتے ہیں۔

کیا آپ پاکستان میں نوکری یا مستقبل کے مواقع کی تلاش میں ہیں؟ کیا آپ اپنا ذاتی کاروبار شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟

اگر آپ واپس آ رہے ہیں تو ہم پاکستان میں نئی شروعات کیلئے آپ کی معاونت کریں گے۔

کیا آپ بیرون ملک سے واپس لوٹ کر آئیں ہیں؟

پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سینٹر (پی جی ایف آر سی) پاکستان میں روزگار، کاروبار اور تعلیمی امکانات کے حوالے سے بالمشافہ مشاورت، معاونت اور معلومات فراہم کرتا ہے یہ معاونت بیرون ممالک سے واپس لوٹ کر آنے والے اور پہلے سے رہائش پذیر تمام افراد کے لیے ہے جنہیں معاشی اور سماجی مدد درکار ہو اور جو اپنے مستقبل کے امکانات کو بہتر بنانا چاہتے ہوں۔

مشاورتی مرکز اور اس کے شراکتی ادارے پاکستان میں نوکری کے حصول، تعلیم، تربیت یا اپنا کاروبار شروع کرنے کے خواہشمند افراد کی مدد کرتے ہیں

پی جی ایف آر سی، وزارت برائے سمندر پار پاکستانی و ترقی انسانی وسائل اور اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن (او پی ایف) کے ساتھ مل کر نوکری، نقل مکانی ہجرت اور دوبارہ انضمام کے شعبوں میں کام کرتا ہے۔

## ہم کئی شعبوں میں مدد فراہم کرتے ہیں۔

### اگر آپ پاکستان میں تربیت اور مستقبل کے مواقع کی تلاش میں ہیں۔

- تربیت اور ہنر میں بہتری کے لیے مشورے تکنیکی اور ووکیشنل تربیت
- مارکیٹ میں ملازمتوں کے رجحانات اور مواقع کے بارے میں مشورے
- پاکستان میں ملازمت حاصل کرنے کے بارے میں مشورے۔
- اپنا کاروبار یا کام شروع کرنے کے لیے مدد
- پاکستان میں نظام صحت کے بارے میں معلومات، سماجی و نفسیاتی مدد
- رہن سہن کے حالات کے بارے میں معلومات
- آسان شرائط پر قرض حاصل کرنے کے بارے میں مشورے

### اگر آپ بیرون ملک سے پاکستان واپس آ رہے ہیں، تو ہم فراہم کریں گے :

- بیرون ملک سے واپس پاکستان آنے والے افراد کے لیے دوبارہ انضمام کے پروگرام کی معلومات
- موزوں مشورہ - خواہ آپ بیرون ملک ہیں یا پاکستان میں سے رہائش پذیر ہیں، آپ اس معاونت سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں
- پاکستان میں نظام صحت کے بارے میں معلومات اور سماجی و نفسیاتی مدد
- غیر سرکاری اداروں کی مشاورتی خدمات سے روابط۔

### یہ مشاورت مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے اور بلا معاوضہ ہے

ہم آپ کو لاہور میں پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سینٹر (پی جی ایف آر سی) اور اسلام آباد میں مشاورتی ڈیسک آمد پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم سے آج ہی رابطہ کریں اور مشیران سے انفرادی ملاقات کا اہتمام کریں۔ آپ ہمیں فون بھی کرسکتے ہیں اور فیس بک یا ای میل پر بھی سوالات بھیج سکتے ہیں۔

## اسلام آباد میں مشاورتی ڈیسک

اوپنی ایف پیڈ آفس بلڈنگ  
شاہراہ جمہوریت،  
سیکٹر جی - ۲/۵، اسلام آباد

+923008520334  
reintegration-pakistan@giz.de  
www.facebook.com/PGFRC

## پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سینٹر (پی جی ایف آر سی)، لاہور

اوپنی ایف سائٹ آفس، ڈی بلاک، کمرشل ایریا  
رائیونڈ روڈ، لاہور، پنجاب

+924235324681  
+924235324682  
+923018271387  
+923028564113  
reintegration-pakistan@giz.de  
www.facebook.com/PGFRC

کورونا وبا کے باعث غیرمتوقع تبدیلیاں ہوسکتی ہے لہذا ہمارے مرکز کے اوقات کار کے لیے  
www.startfinder.de

پر رجوع کریں یا ہمیں کال کریں۔ یہ بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ کورونا وبا کی وجہ سے ہماری خدمات ہیں۔ براہ مہربانی ہمیں کال یا ای میل کر کے جانے کہ ہم معمول کے مطابق خدمات فراہم کر رہے ہیں یا پابندیاں عائد ہیں۔

## اوقات کار:

پیر تا جمعہ صبح ۱۰ بجے سے دوپہر ۱ بجے تک اور دوپہر ۲ بجے سے ۴ بجے تک

مزید معلومات کے لیے براہ کرم ہماری ویب سائٹ سے رابطہ حاصل کریں  
www.startfinder.de



شائع  
ڈوئچے گیسل شافٹ فار انٹرنیشنل زوسامنبرییٹ  
(جی آئی زیڈ) جی ایم بی ایچ  
رجسٹرڈ آفس  
بون اور ایسکورن  
عالمی منصوبہ "ہجرت برائے ترقی" (پی ایم ای)  
ڈیگ ہیمرسکچولڈ - ویگ 1-5  
65760 ایسکورن، جرمنی  
ٹیلی فون:  
0 - 61 96 79 (+49)  
ای میل  
info@giz.de  
ویب سائٹ  
www.giz.de

پاکستانی جرمن فیسیلی ٹیشن اینڈ ری انٹیگریشن سینٹر،  
ریٹرننگ ٹو نیو ایپروچیونٹیوی پروگرام کا حصہ ہے جو کہ  
وفاقی وزارت برائے اقتصادی تعاون اور ترقی (پی ایم زیڈ)  
کی مالی معاونت اور وزارت برائے سمندر پار پاکستانی و  
ترقی انسانی وسائل اور اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن (او  
پی ایف) کے اشتراک سے سر انجام دیا جا رہا ہے

